

# معراج کا سفرنامہ

سید ابوالزعلی مودودی

مرکزی مکتبہ بالامی-دہلی

# مطبوعات اشاعت اسلام ٹرست - ۶۲۳

جملہ حقوق بحق پبلشر محفوظ  
© اشاعت اسلام ٹرست (جیبرد) دہلی

نام کتاب — معراج کا سفرنامہ  
از — سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ  
ناشر — مرکزی مکتبہ اسلامی، ۱۳۵۳ھ چتھی قریبی را  
اشاعت:

بار اول ۱۹۸۴ء تا ۱۹۹۱ء ۱۰,۰۰۰ —  
۱۹۹۳ء ۳,۰۰۰ —

قیمت: ۲/- روپے

مطبوعہ: روپی آفسٹ پریس دہلی ۶

## بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے اُن واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے، ۲۰ ربیع کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کس غرض کے لیے ہوئی تھی۔ اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کسر کیا ہدایات دی تھیں۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔

اس واقعہ کی تفصیلات ۲۸ ہم عصر راویوں کے ذریعہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ سات راوی وہ ہیں جو خود معراج کے زمانہ میں موجود تھے اور ۲۰ وہ جنہوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے اس کا قصہ سننا۔ مختلف روایتیں قصہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں اور سب کو ملانے سے ایک ایسا سفرنامہ بن جاتا ہے جس سے زیادہ دلچسپ، معنی خیز اور نظرافروز سفرنامہ انسانی لطیح پر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنجمبری کے منصب پر سفر از ہوئے بارہ سال گزر جکے تھے۔ ۵۲ برس کی عمر تھی، حرم کعبہ میں سوار ہے تھے۔ یکایک جبریلؑ فرشتے نے آکر آپ کو جنگایا۔ نیم خفہتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلم اور بُردباری اور دانائی اور ایمان و نقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا نگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام ”بُراق“ تھا۔ پہلے انہیاں بھی اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو وہ چمکا، جبریلؑ نے تھیکی دی اور کہا ”دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک مدد سے طری شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا ہے۔“ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریلؑ آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبریلؑ نے کہا۔ اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینا کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوا۔ تیسرا منزل بیت الحم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔

اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ”ادھر آؤ، آپ نے توجہ نہ کی۔“ جبریلؑ نے بتایا، ”یہ یہودیت کی طرف بلارہا تھا۔ دوسری طرف سے آفاز آئی۔ ادھر آؤ، آپ اس کی طرف بھی ملتقت نہ ہوئے۔“ جبریلؑ نے کہا، ”یہ عیسائیت کا داعی تھا۔“ پھر ایک عورت نہایت بندی سنواری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبریلؑ نے کہا، ”یہ دنیا تھی۔“ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبریلؑ نے کہا دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو

اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگئے بڑھ گئے۔ جبریلؑ نے کہا یہ  
شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔

بیت المقدس پہنچ کر آپ برائق سے اتر گئے۔ اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا  
جہاں پہلے انبیا را سے باندھا کرتے تھے۔ پہلی سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب سپمیروں  
کو موجود پایا جو ابتدائے آفریق شہ سے اُس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے  
پہنچنے ہی نماز کے یہ صفتیں بندھ گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگئے بڑھتا  
ہے۔ جبریلؑ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگئے بڑھا دیا اور آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر  
آپ کے سامنے تین پیالے پیش کیے گئے ایک میں پانی، دوسرا میں دودھ، تیسرا  
میں شراب۔ آپ نے دودھ کا پیا لامٹھا لیا۔ جبریلؑ نے مبارک پاددی کہ آپ فطرت  
کی راہ پا گئے۔

اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبریلؑ اس کے ذریعے سے  
آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی منابت  
سے یہ سارا واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔

پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا: کون آتا ہے؟  
جب رسلؑ نے اپنے نام بتایا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریلؑ نے کہا، محمد۔ پوچھا:  
کیا انھیں بلا یا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ کا پر تپاک خیہ مستدم کیا گیا۔  
یہاں آپ کا تعارف فرشتوں اور ان کی احوال کی اُن بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا  
جو اس مرحلہ پر مقیم تھیں۔ ان میں نایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بنادھ  
کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے ہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔

جرسیل نے بتایا: یہ آدم ہی، آپ کے مورث اعلیٰ۔ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو رو تے۔ پوچھا یہ کیا ما جرا ہے؟ بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور تبیرے لوگوں کو دیکھ کر رو تے ہیں۔

پھر آپ کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا کچھ لوگ کہیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی بھی زیادہ بڑھتی جلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔

پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے سر پھرول سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگراہی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھی۔

کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس پھر رہے تھے۔ پوچھا: یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔

پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے، پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا: یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھانے سکتا تھا مگر یہ ان کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ ذمہ داریوں کا بار اپنے اور لادے چلا جاتا تھا۔

پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک تھرمی ذرا ساشکاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل

نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر نہ جاسکا۔ پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا گیا: یہ اس شخص کی مشاں ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔

ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھارہ ہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ دوسروں پر زبان طعن دراز کرتے تھے۔

انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔

کچھ اور لوگ دیکھئے جن کے ہونٹ افسوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھارہ ہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ تیمیوں کا مال ہضم کرتے تھے۔

پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو رومنتے ہوئے گند جاتے ہیں۔ مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا: یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ سودخوار ہیں۔

پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفس چکنا گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بد بو آرہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھارہ ہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے علال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے حرام سے اپنی خواہشِ نفس پوری کی۔

پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا: یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سراپے بچے منڈھ دیئے، جو ان کے

ن تھے۔

انہی کے مشاہدات کے سلسلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ نے جبرئیل سے پوچھا، اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے۔ ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرئیل نے کہا: اس کے پاس نہی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ پس کر آپ نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکاکی آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا۔ اور دوزخ اپنی تمام ہونا کیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔

اس مرحلہ سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ سچی اور عیشی ہیں۔

تیسرا آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلہ میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلے میں چودھویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔

چوتھے آسمان پر حضرت ادریسؑ، پانچویں پر حضرت ہارونؑ، پنجمے پر حضرت موسیؑ آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچنے تو ایک عظیم الشان محن (بیت المعمور) دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ کی ملاقاتیں ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیمؑ ہیں۔

پھر مزید ارتقاء شروع ہوا۔ یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہی پر پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عالمِ خلق کے درمیان حدِ فاصل کی جیشیت رکھتا ہے۔

نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں۔ اور اُپر سے احکام اور قوانین برداہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپؐ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اور آپؐ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ ہمیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سُنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گذر سکا۔

سدہ المحتبی پر جبریلؐ ٹھہر گئے اور آپؐ تنہا آجے ٹڑھے۔ ایک بلند سہوار سطح پر پہنچنے تو بارگاہ جلال سلام منے تھی۔ ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوتیں ان میں سے چند یہ ہیں ہے۔

۱، ہر روز پچاس نمازوں کی فرض کی گئیں۔

۲، سورہ بقریٰ آخری دو آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔

۳، شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔

۴، ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو دش نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا۔ اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔

پیشی خداوندی سے والی پر نیچے اُترے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رد اد شن کر کہا میں بنی اسرائیل کا تلحظ تحریک رکھتا ہوں۔ میرا اندازہ ہے کہ آپؐ کی امت پچاس نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیے اور ہمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپؐ گئے اور اللہ جل شانہ نے ۱۰ نمازوں کم کر دیں۔ پہنچنے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی۔ اُن کے کہنے پر آپؐ بار بار اُپر جاتے رہے۔ اور ہر بار دس

نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا۔ اور فرمایا گیا کہ یہی پچاس کے برابر ہیں۔

والپسی کے سفر میں آپ اسی سیڑھی سے اندر گر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تماں پیغمبر موجود تھے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی۔ پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ والپس پہنچ گئے۔

صحیح سب سے پہلے آپ نے اپنی چھازاد بہن اُم ہانی کو یہ رواداد سنائی۔ پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا: خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنایئے گا۔ درنہ ان کو آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ ہاتھ آجائے گا۔ مگر آپ یہ سہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچنے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، کوئی تازہ خبر؟ فرمایا ہاں، پوچھا کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ کہا: بیت المقدس؟ راتوں رات ہوئے؟ اور صحیح یہاں موجود؟ فرمایا ہاں۔ کہا قوم کو جمع کروں؟ سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا بے شک، ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا لو اب کہو۔ آپ نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ دو ہمینہ کا سفر ایک رات میں؟ ناممکن! حال! پہلے تو شک تھا۔ اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔

آنٹا فاناً یہ نہتر تماں مگہ میں بھیل گئی۔ بہت سے مسلمان اس کو سُن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابو بکرؓ کے پاس پہنچے کہ یہ محمدؐ کے دست راست ہیں، یہ پھر جائیں تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔

انھوں نے یہ قصہ سُن کر کہا اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہو گا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ میں تو روزِ شُنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرنا ہوں۔

پھر حضرت ابو بکر رضی حرم کعبہ میں آئے، رسول اللہ موجود تھے۔ اور ہنسی اڑانے والا جمجم بھی۔ پوچھا گیا واقعی آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ کہا بیت المقدس میراد یکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے۔ اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی کی اس تدبری سے جھٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلہ میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ کے بیان کی صحت کا مزیدہ ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا: جانتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلہ پر سے گزر اجس کے ساتھ یہ سامان تھا، قافلہ والوں کے اوپنے بُراق سے بھڑکے، ایک اوپنے فلاں دادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں دادی میں فلاں قبیلہ کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سورہ ہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا، اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔

ایسے ہی کچھ اور اُتے پتے آپ نے دیئے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے  
 ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں مگر دل یہی سوچتے رہے کہ  
 یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے  
 ہوا؟

۳۰ جولائی ۱۹۴۷ء

---